

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - II (کلاس بارہویں)

PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-II (COMMERCE GROUP) (دومرا (کامرس گروپ) (نئی اسکیم)
(NEW SCHEME) (سیشن 2015-2017)

TIME ALLOWED: 2.30 Hours

وقت = 2.30 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 80

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

کل نمبر = 80

نوٹ: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper. - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

2. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 2- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) What is Consignment? مالی مرسلہ کیا ہے؟ (i)
(ii) Who is Consignor? مرسل کون ہے؟ (ii)
(iii) Define Account Sale. اکاؤنٹ سیل کی تعریف کیجیے۔ (iii)
(iv) What is Capital Fund? سرمایہ فنڈ کیا ہے؟ (iv)
(v) What is Surplus Saving? فائٹو بچت کیا ہے؟ (v)
(vi) What is Endowment Fund? انڈوومنٹ فنڈ کیا ہوتا ہے؟ (vi)
(vii) What is Statement of Affairs? معاملات کا گوشوارہ کیا ہے؟ (vii)
(viii) Define Single Entry System of Bookkeeping. سنگل انٹری سسٹم آف بک کیپنگ کی تعریف کیجیے۔ (viii)

3. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 3- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Define Double Entry System. ڈہرے نظام کے اندراج کی تعریف کریں۔ (i)
(ii) What is Quasi Single Entry System? قوسی سنگل انٹری سسٹم سے کیا مراد ہے؟ (ii)
(iii) Define Partnership. شراکت کی تعریف کریں۔ (iii)
(iv) Define Co-ownership. مشترکہ ملکیت کی تعریف کریں۔ (iv)
(v) What is meant by Revaluation Account? دوبارہ قیمت لگانے کے حساب سے کیا مراد ہے؟ (v)
(vi) What is meant by Registered Company? رجسٹرڈ کمپنی سے کیا مراد ہے؟ (vi)
(vii) Define Holding Company. ہولڈنگ کمپنی کی تعریف کریں۔ (vii)
(viii) What is meant by Articles of Association? ضوابط کمپنی سے کیا مراد ہے؟ (viii)

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

60 = 20 x 3

نوٹ: - کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Prepare machinery account

4- مندرجہ ذیل دی گئی معلومات سے مستقل طریقہ فرسودگی کے تحت مشینری اکاؤنٹ تین سال کے لیے تیار کریں۔

for three years from the following given information:-

(a) Estimated year-3 years Machinery cost Rs.20,000/- مشینری کی لاگت -/2000,000 روپے

(b) قابل استعمال سال -3 سال Rate of depreciation 33 1/3 % p.a. فرسودگی کی شرح % 33 1/3 سالانہ

(c) Residual value Rs.20,000/- کھابڑ قیمت 20,000 روپے

5. Hussain started business with a capital of Rs.53000/- on 1st January 2016. His position on 31st December 2016 was as under:- حسین نے یکم جنوری 2016ء کو -/53000 روپے سے کاروبار شروع کیا۔ 31 دسمبر 2016ء کو اس کی مالی حالت کچھ یوں تھی۔

with a capital of Rs.53000/- on 1st January 2016. His position on 31st December 2016 was as under:-

Cash	Rs.600	کیش
Bank Balance	Rs.4000	بینک بیلنس
Sundry Debtors	Rs.28000	کل مقروض
Stock	Rs.38000	سٹاک
Plant	Rs.54000	پلانٹ
Furniture	Rs.3000	فرنیچر
Sundry Creditors	Rs.58000	کل قرض خواہ

حسین نے سال کے درمیان میں مزید -/15000 روپے کاروبار میں لگائے اور -/9500 روپے ذاتی استعمال کے لیے کاروبار سے نکالے۔ 31 دسمبر 2016ء کو اس

Hussain introduced a fresh capital of Rs.15000/- during the year and withdrew

کافٹن یا نقصان معلوم کیجیے۔

Rs.9500/- for personal use. Prepare profit and loss for the year ended 31st December, 2016.

(درج ذیل)

6. ظہیر کمپنی لمیٹڈ 1000000 روپے کے منظور شدہ سرمایہ سے رجسٹر ہوئی جو کہ 10000 حصص 100 روپے فی حصص کے حساب سے تقسیم ہوا۔ 6000 حصص عوام کو پیش کیے گئے۔ 8000 حصص کے لیے درخواستیں وصول ہوئیں۔ 2000 حصص کی رقم واپس کر دی۔ درخواست گزاروں کو حصص الاٹ کر دیے گئے۔ جرنل انٹریاں پاس کیجیے اور بیلنس شیٹ تیار کیجیے۔
6. Zaheer Company Limited was registered with authorised capital of Rs.1000000 divided into 10000 shares of Rs.100 each. 6000 shares were offered to general public for subscription. Applications were received for 8000 shares. The application money of 2000 shares was refunded. Shares were allotted to the applicants. Pass journal entries and prepare balance sheet.
7. ناصر ریڈیو ہاؤس راولپنڈی نے لاہور میں اپنے ایجنٹ بشارت کو 100 ریڈیو سیٹ فروخت کرنے کے لیے بھیجے۔ ایک ریڈیو کی قیمت -/150 روپے تھی۔ -/300 روپے اس نے کرایہ اور پیکنگ کا خرچ کیا۔ کسٹائی کل فروخت پر 10 فیصد کمیشن کا حقدار ہے۔ ایجنٹ نے -/1150 روپے خرچ کیا اور مالک کو 10,000 روپے کا ڈرافٹ ایڈوانس دیا۔ بشارت نے تمام ریڈیو سیٹ -/200 روپے فی ریڈیو کے حساب سے فروخت کر دیے۔ مطلوب:- جرنل انٹری بنائیں اور مالک کی کتابوں میں ضروری لیجر بنائیں۔
7. Nasir Radio House of Rawalpindi consigned 100 Radio sets to Basharat of Lahore for sale at Rs.150/- each. He paid Rs.300/- as freight and packing. The consignee is entitled to commission at 10 % of gross sale proceeds. Agent paid Rs.1150 as all inclusive expenses and also sent a draft of Rs.10,000 as an advance to the consignor. Basharat sold all the radio sets at Rs.200/- each. Required:- Pass journal entries and prepare necessary ledger accounts in the books of consignor.
8. کراؤن کلب کے درج ذیل وصولیوں اور ادائیگیوں کے کھاتے سے 31 دسمبر 2005ء کو کھاتہ آمدن و خرچ اور بیلنس شیٹ تیار کریں۔
8. From the following receipts and payments account of Crown Club prepare an income and expenditure account and balance sheet for the year ending December, 31, 2005.

Receipts	وصولیاں	Rs.	Rs.	Payments	ادائیگیاں
To balance b/d	ابتدائی بیلنس	130	2500	By rates	محصولات
To entrance fee	داخلہ فیس	210	340	By stationery	شیشیری
To subscription	چندہ جات		3610	By general expenses	عام اخراجات
		70	2500	By building	عمارت
		10520	300	By repairs	مرمتیں
		420	4060	By balance c/d	انتقائی بیلنس
To tockers rent	لاکرز کا کرایہ	300			
To miscellaneous fee	متفرق فیس	1660			
Total	ٹوٹل	13310	13310	Total	ٹوٹل

درج ذیل مزید معلومات دستیاب ہیں۔ (i) لاکرز کا کرایہ 20 روپے پچھلے سال سے متعلقہ ہے اور 30 روپے قابل وصول ہے۔ (ii) ریش 620 روپے پچھلے سال سے متعلقہ ہیں اور 620 روپے اس سال کے واجب الادا ہیں۔ (iii) اس سال کے لیے چندہ واجب الوصول 210 روپے ہے۔ (iv) عمارت پردس نی صدر فرسودگی لگائیں۔ (v) 31 دسمبر 2004ء کو عمارت کی درج شدہ قدر 67500 روپے تھی۔

The following further informations are available:-

- (i) Locker rent Rs.20 referred to previous year and Rs.30 is still owing. (ii) Rates Rs.620 referred to the previous year and Rs.620 is still owing. (iii) Subscription unpaid for the current year Rs.210. (iv) Depreciate building by 10 %. (v) Building stood in the books on December 31, 2004 Rs. 67500.

9. A, B and C are in partnership from 1st January 2010. Sharing of profits and losses is in the proportion of 4 : 3 : 1. They contribute Rs.50,000, Rs.30,000 and Rs.20,000 respectively as capitals and draw Rs.7000, Rs.5000 and Rs.1500. It is settled each partner will get 5 % interest on capital, but no interest shall be charged on drawing. The profit and loss account for 2010 shows credit balance of Rs.24000 out of which they make a provision of Rs.1500. Prepare profit and loss appropriation account for 2010.
9. A, B and C are in partnership from 1st January 2010. Sharing of profits and losses is in the proportion of 4 : 3 : 1. They contribute Rs.50,000, Rs.30,000 and Rs.20,000 respectively as capitals and draw Rs.7000, Rs.5000 and Rs.1500. It is settled each partner will get 5 % interest on capital, but no interest shall be charged on drawing. The profit and loss account for 2010 shows credit balance of Rs.24000 out of which they make a provision of Rs.1500. Prepare profit and loss appropriation account for 2010.

PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-II (COMMERCE GROUP) (دوسرا (کامرس گروپ) (NEW SCHEME) (نیا سکیم)
(2015-2017 سیشن)

TIME ALLOWED: 30 Minutes

وقت = 30 منٹ

MAXIMUM MARKS: 20

OBJECTIVE حصہ معروضی

کل نمبر = 20

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles بھرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. سوالیہ پرچہ پر ہرگز سوالات حل نہ کریں۔

The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) Allocation of cost of intangible assets into expense is called:- غیر مرئی اثاثہ جات کی لاگت کو خرچ میں تقویض کرنے کو کہتے ہیں۔
(A) Depletion ڈیپلیشن (B) Amortization امارٹائزیشن (C) Depreciation ڈیپریسیشن (D) All of these یہ تمام
- (2) Under single entry system, if ending capital is less than opening capital, it represents:- اکہرے نظام حساب نویسی کے تحت اگر آخر کا سرمایہ شروع کے سرمایہ سے کم ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے۔
(A) Loss نقصان کو (B) Profit نفع کو (C) Drawing برداشتی کو (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (3) The relationship between Consignor and Consignee is that of:- مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان تعلق کی نوعیت ہوتی ہے۔
(A) Principal and Agent مالک اور کارندہ (B) Debtor and Creditor مقروض اور قرض خواہ (C) Seller and buyer فروخت کنندہ اور خریدار (D) All of these یہ تمام
- (4) The excess of expenditure over incomes of a non-trading concern is called:- غیر تجارتی اداروں کے اثاثہ جات ان کے واجبات سے بڑھ جائیں تو کہلاتا ہے۔
(A) Loss نقصان (B) Surplus فائدہ (C) Deficit خسارہ (D) All of these یہ تمام
- (5) Prospectus for sale of shares is issued by a:- حصص کی فروخت کے لیے پیش نامہ جاری کرتی ہے۔
(A) Private Limited Company پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی (B) Public Limited Company پبلک لمیٹڈ کمپنی (C) Both Public and Private پبلک اور پرائیویٹ دونوں (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (6) Current account of partners is maintained when Capital is:- حصہ داروں کا جاری کھاتہ تیار کیا جاتا ہے جب سرمایہ ہوتا ہے۔
(A) Fluctuating تغیر پذیر (B) Deficit خسارہ والا (C) Fixed مستقل (D) All of these یہ تمام
- (7) The accumulated depreciation of an asset in its first year of life is equal to:- ایک اثاثہ کی عمر کے پہلے سال میں اس کی مجموعی فرسودگی برابر ہوتی ہے۔
(A) Cost price قیمت خرید کے (B) Depreciation expense فرسودگی خرچ کے (C) Depreciable cost قابل فرسودگی قیمت کے (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (8) During conversion process of single entry into double entry, credit purchases is ascertained through:- اکہرے نظام حساب نویسی کو دہرے نظام میں تبدیلی کے عمل کے دوران ادھار خرید کی _____ کے ذریعے سے معلوم کی جاتی ہے۔
(A) Debtors Account دین دار کھاتہ (B) Balance sheet بیلنس شیٹ (C) Cash book کیش بک (D) Creditors account لین دار کھاتہ
- (9) Consignment Account is of the nature of:- مال مرسل کھاتہ کی نوعیت ہوتی ہے۔
(A) Real Account حقیقی کھاتہ کی (B) Personal Account ذاتی کھاتہ کی (C) Nominal Account عارضی کھاتہ کی (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (10) Legacy is treated as:- وراثت تصوری کی جاتی ہے۔
(A) Capital receipt سرمایہ وصولی (B) Revenue receipt مال پائی وصولی (C) Liability ذمہ داری (D) All of these یہ تمام
- (11) By Law audit of books of accounts of a company is:- قانونی طور پر ایک کمپنی کی حسابی کتابوں کا آڈٹ ہوتا ہے۔
(A) Optional مرضی پر (B) Once in 5 years پانچ سال میں ایک مرتبہ (C) Compulsory لازمی (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

- (12) A minor partner is admitted in the partnership to share only:- ایک نابالغ حصہ دار کو شراکتی کاروبار میں شامل کیا جاتا ہے صرف:- (12)
- (A) Loss of Business کاروبار کے نقصان میں (B) Profit of Business کاروبار کے نفع میں
(C) Liability of Business کاروبار کی ذمہ داری میں (D) All of these ان تمام میں
- (13) The natural resources are also called:- قدرتی وسائل کو _____ بھی کہتے ہیں۔ (13)
- (A) Plant assets مرئی اثاثے (B) Wasting assets ختم ہونے والے اثاثے
(C) Intangible assets غیر مرئی اثاثے (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (14) Under single entry system, a statement of assets, liabilities and owner's equity is called:- اکہرے نظام حساب نویسی کے تحت اثاثہ جات، واجبات اور مالک کی ملکیت کے گوشوارہ کو کہتے ہیں۔ (14)
- (A) Statement of affairs گوشوارہ معاملات (B) Balance sheet بیلنس شیٹ
(C) Profit and loss account نفع اور نقصان کا گوشوارہ (D) All of these یہ تمام
- (15) An Account Sales statement is prepared by:- گوشوارہ اکاؤنٹ سیلز تیار کرتا ہے۔ (15)
- (A) Credit Customer ادھار والا گاہک (B) Consignor مُرسل
(C) Consignee مُرسل الیہ (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (16) Amount of property received from a non-trading concern the estate of a deceased is called:- مرنے والے شخص کے ترکہ میں سے غیر تجارتی ادارہ کو حاصل ہونے والی رقم یا جائیداد کہلاتی ہے۔ (16)
- (A) Donations عطیات (B) Subscription چندہ (C) Admission fee داخلہ فیس (D) Legacy وراثت
- (17) Naked debentures are also known as:- برہنہ ڈیبینچرز کو _____ بھی کہتے ہیں۔ (17)
- (A) Unsecured debentures غیر محفوظ ڈیبینچرز (B) Secured debentures محفوظ ڈیبینچرز
(C) Irredeemable debentures ناقابل واپسی ڈیبینچرز (D) All of these یہ تمام
- (18) Upon formation of a partnership business, each partner's investment of assets is recorded as:- ایک شراکتی کاروبار کی تشکیل کے وقت ہر حصہ دار کے اثاثہ جات کی سرمایہ کاری پر درج کی جاتی ہے۔ (18)
- (A) Cost value اصل لاگت (B) Book value کتابی قیمت
(C) Market value بازاری قیمت (D) Agreed value رضامندی والی قیمت
- (19) Normal loss is that can be:- طبعی نقصان وہ ہوتا ہے جس سے:- (19)
- (A) Avoidable بچا جاسکتا ہے (B) Unavoidable بچا نہیں جاسکتا ہے
(C) Contingent ہنگامی (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (20) Business commencement certificate is issued by:- کاروبار شروع کرنے کا سرٹیفکیٹ _____ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ (20)
- (A) Director of Company کمپنی کے ناظم (B) Chairman of Company کمپنی کے چیئرمین
(C) Registrar of Company رجسٹرار آف کمپنی (D) All of these ان تمام کی طرف سے

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - II (کلاس بارہویں)

اصول حساب داری پرچہ - دوسرا (کامرس گروپ) (PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-II (COMMERCE GROUP)
(اولڈ سکیم) (سیشن 2012-2014) (OLD SCHEME)

TIME ALLOWED: 2.10 Hours

وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

کل نمبر = 60

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
NOTE: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 2- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- | | |
|--|--|
| (i) Define Statement of Affairs. | (i) معاملاتی گوشوارہ کی تعریف کیجیے۔ |
| (ii) What is meant by Quasi Single Entry System? | (ii) ظاہری حساب نویسی کے اکہرے نظام سے کیا مراد ہے؟ |
| (iii) What are the four sources of Income of Non-trading concerns? | (iii) غیر تجارتی اداروں کی آمدنی کے چار ذرائع کیا ہیں؟ |
| (iv) What is meant by Endorsement Fund? | (iv) وقف شدہ فنڈ سے کیا مراد ہے؟ |
| (v) What is meant by Admission Fee? | (v) داخلہ فیس سے کیا مراد ہے؟ |
| (vi) What is the difference between Receipts and Payment Account and an Income and Expenditures Account? | (vi) وصولیوں اور ادائیگیوں کے کھاتے اور آمدنی اور اخراجات کے کھاتے میں کیا فرق ہے؟ |
| (vii) What statements are prepared in Non-trading concern? | (vii) غیر تجارتی اداروں میں کون سے گوشوارے بنائے جاتے ہیں؟ |
| (viii) How Capital fund is calculated? | (viii) سرمایہ فنڈ کس طرح نکالا جاتا ہے؟ |
| (ix) What is meant by Legacy? | (ix) وصیت شدہ ترکہ سے کیا مراد ہے؟ |

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 3- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- | | |
|---|---|
| (i) Define Shares. | (i) حصص کی تعریف کیجیے۔ |
| (ii) What is meant by Prospectus? | (ii) پیش نامہ سے کیا مراد ہے؟ |
| (iii) What is meant by Promoters? | (iii) بانیان سے کیا مراد ہے؟ |
| (iv) What is meant by Statutory Company? | (iv) آئینی کمپنی سے کیا مراد ہے؟ |
| (v) Who are Underwriters? | (v) انڈر رائٹرز کون ہوتے ہیں؟ |
| (vi) What is meant by Commission on Consignment? | (vi) مال مرسل میں کمیشن سے کیا مراد ہے؟ |
| (vii) What is the difference between Consignor and Consignee? | (vii) مرسل اور مرسل الیہ میں کیا فرق ہے؟ |
| (viii) What do you know about Unsold Stock? | (viii) غیر فروخت شدہ مال کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ |
| (ix) Write down two features of Consignment. | (ix) مال مرسل کی دو خصوصیات تحریر کریں۔ |

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 4- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- | | |
|--|---|
| (i) What is meant by Active Partner? | (i) کارکن حصہ دار سے کیا مراد ہے؟ |
| (ii) What is meant by dissolution of Partnership? | (ii) شراکت کی تنفیخ سے کیا مراد ہے؟ |
| (iii) How partnership is dissolved with the help of Court? | (iii) شراکت کا بذریعہ عدالت خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ |
| (iv) Who is sleeping partner? | (iv) نمائشی یا رکی حصہ دار سے کیا مراد ہے؟ |
| (v) What is meant by Registered Partnership Deed? | (v) رجسٹرڈ معاہدہ شراکت سے کیا مراد ہے؟ |
| (vi) What is meant by Firm? | (vi) فرم سے کیا مراد ہے؟ |
| (vii) Write down the method of dissolution of Partnership. | (vii) شراکت کی تنفیخ کے طریقے لکھیں۔ |
| (viii) What is meant by Current Assets? | (viii) غیر مستقل اثاثہ جات سے کیا مراد ہے؟ |
| (ix) What is meant by Obsolescence? | (ix) عدم کفالت سے کیا مراد ہے؟ |

SECTION-II حصہ دوم

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 24 = 8 x 3 **NOTE: - Attempt any three questions.**

5. Sajid consigned goods of Rs.25000/- to Majid. He paid Rs.650/- as freight and Rs.490/- as insurance. A bill of Rs.4000/- was received from Majid as advance. Account sales showing that a part of goods has been sold for Rs.15000/- while consignee expenses and commission was Rs.860/-. The cost price of stock was Rs.15750/-.
- A draft was received for the balance from consignee.
- Required:- Pass journal entries and prepare consignment account in the books of consignor.
6. Ahmad purchased a building costing Rs.500000/- and decided to depreciate it at 10 % per annum under Straight Line Method. Prepare building account for first four years.
7. Azam and Babar are partners sharing profits and losses in the ratio of 2 : 3. They admitted Irfan for 1/4th share in profits. Irfan brings Rs.25000/- capital and Rs.3500/- as goodwill.
- Required:- Pass Journal Entries.
8. XYZ Ltd. Company was registered with 20,000 shares of Rs.10 each. 5000 shares were issued to public for subscription at par 6000 applications were received. Excess applications were refunded and allotment was made on 5000 applications.
- Required:- Make necessary journal entries and prepare balance sheet.
9. Ali keeps his books on Single Entry System. On 1st January 2013, he started business with capital Rs.35000. His financial position on December 31st, 2013 was as follows:-

Rs.5600	Cash in hand	دفتر میں موجود کیش
Rs.15000	Sundry Debtors	متفرق دین دار
Rs.12000	Stock	ذخیرہ
Rs.20000	Machinery	مشینری
Rs.10000	Furniture	فرنیچر
Rs.11900	Creditor	لیں دار

سال کے دوران اس نے مبلغ 4000/- روپے کیش اور مبلغ 1500/- روپے کی اشیا ذاتی استعمال کے لیے کاروبار سے نکلوائیں۔ یکم اگست 2013ء کو اس نے مبلغ 7000/- روپے کاروبار میں تازہ سرمایہ لگایا۔ مبلغ 1500/- روپے کا قرض ڈوب گیا اور 5 فیصد کے حساب سے قرض ڈوب جانے کا احتمال رکھا۔ مشینری اور فرنیچر پر 10 فیصد کے حساب سے فرسودگی لگائی گئی۔ سرمایہ پر سود کی شرح 7 فیصد رکھی گئی۔

مطلوب:- 31 دسمبر 2013ء کو نفع و نقصان کا گوشوارہ تیار کریں۔

During the year he withdrew cash Rs.4000 and goods worth Rs.1500 for personal use. On 1st August 2013, he introduced fresh capital Rs.7000. Actual bad debts were Rs.1500 and a reserve for doubtful debts is required @ 5 %. Depreciate machinery and furniture @ 10 % p.a. Interest on capital is allowed @ 7 % p.a.

Required:- Prepare profit & loss statement as on 31st December 2013.

اصول حساب داری پرچہ - دوسرا (کامرس گروپ) (PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-II (COMMERCE GROUP)
(OLD SCHEME) (2012-2014 سیشن) (اولڈ سکیم)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

OBJECTIVE حصہ معروضی

کل نمبر = 15

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کٹ بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles بھرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوال پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) The partnership agreement in writing is called:-
(A) Partnership registration شراکتی رجسٹریشن (B) Partnership at will خواہش کے مطابق شراکت
(C) Partnership deed معاہدہ شراکت (D) Partnership certification شراکتی تصدیق نامہ
- (2) A partner who share the profits of the firm but not liable for the losses, is called:-
(A) Senior partner سینئر حصہ دار (B) Nominal partner برائے نام حصہ دار
(C) Quasi partner بظاہر حصہ دار (D) Partner in profits only صرف نفع میں شریک حصہ دار
- (3) Partner's contribution to the business of the firm is called:-
(A) Capital سرمایہ (B) Profit منافع (C) Share حصہ (D) Property جائیداد
- (4) For the firm, interest on drawings is called:-
(A) Income آمدنی (B) Expense خرچہ (C) Liability واجب الادا (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (5) A and B share profits/losses in the ratio of 4 : 3. They admit H in the firm with 3/7 share
اے اور بی 4 : 3 کی نسبت سے نفع و نقصان تقسیم کرتے ہیں۔ انہوں نے 3/7 حصہ کے ساتھ ایچ کو اپنے ساتھ شامل کیا جو وہ 2/7 اے سے اور 1/7 بی سے لے گا۔ نفع نقصان کا نیا تناسب ہوگا۔
- (6) A and B share profits/losses in the ratio of 4 : 3. They admit H in the firm with 3/7 share which he gets 2/7 from A and 1/7 from B. The new profit sharing ratio will be:-
(A) 7 : 3 : 2 (B) 2 : 2 : 3 (C) 4 : 3 : 1 (D) 3 : 2 : 1
- (6) The method is used for those assets whose useful life depends upon the fact that how many kilometers they have been driven:-
(A) Machine Hour Rate Method مشین آور شرح کا طریقہ (B) Mileage Method میلوں کا طریقہ
(C) Global Method گلوبل کا طریقہ (D) Depletion Method ڈیپلیشن کا طریقہ
- (7) The amount of depreciation is credited to depreciation fund account in the:-
(A) Straight Line Method مقررہ اقساط کا طریقہ (B) Annuity Method سالانہ اقساط کا طریقہ
(C) Diminishing Balance Method گھٹتے ہوئے بقایا کا طریقہ (D) Depreciation Fund Method فرسودگی فنڈ کا طریقہ
- (8) Those debentures which are secured by a fixed or floating charge on fixed assets:-
(A) Naked Debentures عریاں تمسکات (B) Mortgage Debentures کفالتی یا رہن شدہ تمسکات
(C) Simple Debentures سادہ تمسکات (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (9) The account of share premium received by the company is shown in the company's balance sheet under the heading of:-
(A) Creditors لین داران (B) Profit منافع (C) Reserve ریزرو (D) Loan قرضہ
- (10) Subscription outstanding at the beginning of the year was Rs.1000 of which RS.800 were realized during the current year. The amount to be shown in the closing balance sheet will be:-
(A) Rs.1000 (B) Rs.800 (C) Rs.1800 (D) Rs.200
- (11) Income and expenditure account is credited with all:-
(A) Expenses اخراجات (B) Earnings آمدنیاں (C) Assets اثاثہ جات (D) Liabilities واجبات
- (12) Under Single Entry System, if the capital at end is less than the capital at the beginning, the difference will be:-
(A) Net Loss خالص نقصان (B) Net Profit خالص منافع (C) Drawings برداشتگیاں (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (13) If the cost of goods sold Rs.150000, rate of gross profit on cost 20%, the sale will be:-
(A) Rs.100000 (B) Rs.80000 (C) Rs.200000 (D) Rs.180000
- (14) Discount on bills discounted is treated as a financial expense and is debited to:-
(A) Consignment account کنسائنمنٹ اکاؤنٹ (B) Profit and loss account نفع و نقصان اکاؤنٹ
(C) Consignee account کنسائنٹی اکاؤنٹ (D) Commission account کمیشن اکاؤنٹ
- (15) For unsold stock lying with consignee, the consignee will record:-
(A) Nil کوئی نہیں (B) Compound entry مشترکہ انٹری (C) Single entry اکہری انٹری (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,

MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR INTER (PART I/ II) Annual Examination, 2017.

Name of Subject PACC-II
Group: 1st (NEW) 2015-17

Session old 2012-14
Group: 2nd

Q. Nos.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	4701	87		
1.	B			
2.	A			
3.	A			
4.	AM			
5.	B			
6.	C			
7.	B			
8.	D			
9.	C			
10.	A			
11.	C			
12.	B			
13.	B			
14.	A			
15.	C			
16.	D			
17.	A			
18.	D			
19.	B			
20.	C			

Q. Nos.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	8701			
1.	C			
2.	B			
3.	A			
4.	A			
5.	B			
6.	B			
7.	D			
8.	B			
9.	C			
10.	D			
11.	B			
12.	A			
13.	D			
14.	B			
15.	A			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ/ مارکنگ Key

ہم نے مضمون PACC پرچہ I گروپ پہلی سیم new ایئر سالانہ امتحان 2017 کا سوالیہ پرچہ جاننا یہ ضروری ہے کہ (Subjective & Objective) کو نظر میں چیک کر لیا ہے یہ پرچہ سلیبس کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور سلیبس (Syllabus) کے مطابق بھی ہیں۔ نیز اس پرچہ کی Key کی بابت بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بھی درست بنائی گئی ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بنور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔

PREPARED & CHECKED BY

Sr.No Name Designation Institution Mobile No. Signature